

NASIRAT-UL AHMADIYAH MALAYSIA

Yearly Syllabus 2023-2024

Content Book



Acknowledgement:

All praise belongs to ALLAH, the Almighty. Through His Help, we were enabled to complete the Nasirat Activity Book. This project was supervised by National Sadr Lajnah Ima'illah Malaysia, who provided encouragement and special prayers for its success. The Purpose of this work book is to easily understand the syllabus and helpful for Nasirat to solve exam paper.

- ❖ **Syllabus Selection:** Sec Nasirat Malaysia Mrs Asma Usman and Asst Sec Nasirat Malaysia Mrs Amtul Mubeen.
- ❖ **Layout:** Mrs Asma Usman and Mrs Amtul Mubeen.
- ❖ **Malay Translation:** Cik Sakinah Adnan and Puan Aisya Abu Bakar.
- ❖ **Front Cover and Program Writing:** Mrs Amtul Mubeen.
- ❖ **Answer Book:** Mrs Asma Usman and Mrs Amtul Mubeen.
- ❖ **Final Rechecked by:** Mrs Asma Usman, National Gen Sec and National Pn Sadar Malaysia.

We pray to Allah Almighty that the Taleem and Tarbiyat Syllabus will be beneficial for our beloved Nasirat.

Sincerely, Asma Usman,


National Secretary Nasirat,



Malaysia.

Chapter: HOLY QURAN

	
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾</p>	<p>اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔</p>
<p>الْم ﴿٢﴾</p>	<p>أَنَا اللَّهُ أَغْلَمُ: میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔</p>
<p>ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣﴾</p>	<p>یہ ”وہ“ کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔</p>
<p>الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٤﴾</p>	<p>جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔</p>
<p>وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٥﴾</p>	<p>اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔</p>
<p>أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ * وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾</p>	<p>یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔</p>
<p>إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾</p>	<p>یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا (اس حال میں کہ) برابر ہے ان پر خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔</p>
<p>خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۚ وَ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٨﴾</p>	<p>اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی شنوائی پر بھی۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب (مقدر) ہے۔</p>
<p>وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾</p>	<p>اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخر پر بھی، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔</p>
<p>يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠﴾</p>	<p>وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔</p>

<p>ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ پس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا۔ اور ان کے لئے بہت دردناک عذاب (مقدر) ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔</p>	<p>فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ لَّفَرَادِهِمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١١﴾</p>
<p>اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔</p>	<p>وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٢﴾</p>
<p>اخباردار! یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔</p>	<p>أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٣﴾</p>
<p>اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار! وہ خود ہی تو ہیں جو بے وقوف ہیں۔ لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔</p>	<p>وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾</p>
<p>ور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے اور جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو (ان سے) صرف تمسخر کر رہے تھے۔</p>	<p>وَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۗ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴿١٥﴾</p>
<p>اللہ (ضرور) ان کے تمسخر کا جواب دے گا۔ اور انہیں کچھ عرصہ مہلت دے گا کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں۔</p>	<p>اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمْدُدُّهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٦﴾</p>
<p>یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ پس ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہو سکے۔</p>	<p>أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٧﴾</p>

		
[a]In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
[a]All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds,	تمام حمد اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾
The Gracious, the Merciful,	بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾
Master of the Day of Judgement.	جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔	مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾
Thee alone do we worship and Thee alone do we implore for help.	تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾
Guide us in the right path,	ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾
The path of those on whom Thou hast bestowed Thy blessings, those who have not incurred Thy displeasure, and those who have not gone astray.	ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تُو نے انعام کیا۔ جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>رکوعها ۱</p> </div> <div style="text-align: center;"> <h2>سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ ۱۰۸</h2> </div> <div style="text-align: center;"> <p>آياتها ۴</p>  </div> </div>		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
Surely, we have given thee abundance of good;	یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔	اِنَّا اَعْطٰیْنٰکَ الْکَوْثَرَ ﴿۲﴾
So, pray to thy Lord, and offer sacrifice	پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی دے۔	فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ ﴿۳﴾
Surely, it is thy enemy who is without issue.	یقیناً تیرا دشمن ہی ہے جو آبتر رہے گا۔	اِنَّ شَانِئَکَ بِئُو الْاَبْتَرِ ﴿۴﴾

Introduction and Short Commentary

Background: This surah was revealed in Mecca. Meaning Kauthar means abundance of goods (to have more than what you need). This Surah refers to Holy Prophet PBUH as one who has been given abundance of goods. This Surah was revealed when Holy Prophet PBUH did not own anything and had nothing to give away. He was a very poor man. He was mock (made fun of) and persecuted (treated badly because of his religious belief). He was treated so badly that he had to migrate to Medina. Even in Medina he was mistreated. Years later, God showered him with abundance of goods in every shape and form. He was blessed with a company of followers who were loyal to him, thus fulfilling the above Surah. In this Surah, we are also told that we should pray constantly, and to offer sacrifices in the way of Allah. Both of these acts are pillars of Islam.

Keywords:

Kauthar: abundance of goods (a very large quantity of something)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>رکوعها ۱</p> </div> <div style="text-align: center;"> <h2>سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ ۱۱۲</h2> </div> <div style="text-align: center;"> <p>آياتها ۵</p>  </div> </div>		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
Say, 'He is Allah, the One;	تُو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾
'Allah, the Independent and Besought of all.	اللہ بے احتیاج ہے۔	اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾
'He begets not, nor is He begotten;	نہ اُس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔	لَمْ يَلِدْ وَّ لَمْ يُولَدْ ﴿۴﴾
'And there is none like unto Him.'	اور اُس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔	وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

- *QUL*: (Say) spread the message that He is one and only one to create this universe and He needs no partner.
- *Allah*: The distinctive name used in the Qur'an for the Supreme Being. The word is never used for any other thing or being.
- *Ahad*: This means One, Alone, and Unique.
- *Samad*: This means independent of all and to Whom every being is dependent to.

In the name of Allah, the Gracious, the Merciful	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بِن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱)
Say, 'I seek refuge in the Lord of mankind,	تُو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (۲)
'The King of mankind,	انسانوں کے بادشاہ کی۔	مَلِكِ النَّاسِ (۳)
The God of mankind,	انسانوں کے معبود کی۔	اِلٰهِ النَّاسِ (۴)
"From the evil of the sneaking whisperer,	بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔	مِنَ الشَّرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفٰسِ (۵)
'Who whispers into the hearts of men,	وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے	الَّذِیْ یُوسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ (۶)
'From among the Jinn and mankind.'	(خواہ) وہ جنوں میں سے ہو (یعنی بڑے لوگوں میں سے) یا عوام الناس میں سے۔	مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (۷)

Introduction and Short Commentary

This surah was revealed in Medina, and the Holy Prophet PBUH used to recite Surah An Nas before going to bed.

Meaning

The whispers mentioned in the Surah can be referred to men or jinn who create doubt in hearts of people with the intention to harm them. Evil thoughts can implant doubts in believer's hearts, leading to uncertainty of faith.

The weakness of faith may lead to doubting the existence of God or associating partners (shirk) with him which is the greatest sin one can perform. All believers must understand that Allah alone is the provider and he alone should be worshipped. The following beliefs can lead to shirk – associating partners with Allah:

- When one believes another person to be their Lord, King or God.
- When one believes another to be the support of their lives.


- When one loves and adores an object or person with an obsession causing interference in their daily lives.

A believer must always ask forgiveness from Allah for unintentional sins and other mistakes. To stay away from evil thoughts and sins, one must understand that Allah:

- Is the Creator and Lord of mankind and the support of life.
- Is one true God and should be obeyed unconditionally.
- Should be the real object of believers love and adoration

Key words:

- Nas: Common men
- Rabb: Lord of mankind. The developer of man 's physical appearance and moral behaviour
- Malik: King of mankind. The rewarder or punisher of thoughts, words and actions
- Ilah: God of mankind. God is the object of man 's love and adoration.

		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱)
When the help of Allah comes, and the victory,	جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (۲)
And thou seest men entering the religion of Allah in troops,	اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔	وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (۳)
Glorify thy Lord with His praise, and seek forgiveness of Him. Surely, He is Oft-Returning with compassion.	پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ (اس کی) تسبیح کر اور اُس سے مغفرت مانگ۔ یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (۴)

Introduction and Short Commentary

Background:

This Surah was revealed to the Holy Prophet (SAW) in Medina during the last few days of his life.

Meaning

This Surah is addressing to the believers, especially to Holy Prophet (SAW). Allah says that he has fulfilled the promise of victory to Holy Prophet (SAW). Now that the promise has fulfilled, and people are converting into Islam in large number. Allah in this Surah is asking believers and Holy Prophet (SAW) to be thankful to Allah for his mercy. Allah gives the good news to Holy Prophet (SAW) that He will forgive the sins of the new converts that they have made previously. Holy Prophet (SAW) was also guided to pray for the new convert so they can follow the right path.


		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱)
Say, 'O ye disbelievers!	! کہہ دے کہ اے کافرو	قُلْ يَاۤیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ (۲)
'I worship not that which you worship;	میں اُس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔	لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (۳)
'Nor worship you what I worship.	اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔	وَ لَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ (۴)
'And I am not going to worship that which you worship;	اور میں کبھی اُس کی عبادت کرنے والا نہیں بنوں گا جس کی تم نے عبادت کی ہے۔	وَ لَا اَنَاۤ اَعْبُدُ مَاۤ اَعْبُدْتُمْ (۵)
'Nor will you worship what I worship.	اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے بنو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔	وَ لَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ (۶)
'For you your religion, and for me my religion.'	تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔	لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَاِلٰی دِیْنِی (۷)

Introduction and Short Commentary:

This Surah was revealed at Mecca and has a deep connection with Surah Al-Kauthar. In Surah Al-Kauthar, it was stated that spiritual and material blessings will be bestowed upon the Holy Prophet P.B.U.H such as have no parallel or precedent in human history. In this Surah, however, those disbelievers, against whom a divine decree had gone forth that they would not accept Islam, are warned that when after having seen such

manifest Signs in support of the Holy Prophet saw they had refused to accept him, how could they expect Muslims to give up their Faith and accept their foolish beliefs? Holy Prophet P.B.U.H have reported to have said that Surah Ikhlas was equal to 1/3 of the Quran, and Surah Al-Kafirun to ¼ of it, and whosoever would frequently recite these two Surahs and give serious thought to their subject-matter would command great respect and Prestige (ibn e Mardawaih). –

Surah Al-Ikhlas deals with a basic principle of Islam—Divine Unity. - In Surah Al-Kafirun, believers are enjoined courageously to stick to their faith in a hostile environment and under adverse circumstances. Therefore, he who will comprehend and realize the significance and importance of these two chapters, will necessarily command great respect. The Divine command, expressed by the word Qul in the first verse, applies to every Muslim. Wherever it is used in the Holy Qur'an it emphasizes the importance of the subject matter governed by it. Thus believers are enjoined to proclaim loudly and repeatedly, and convey to disbelievers in clear and definite terms, the great principles of Islam declared and emphasized in this Surah.

		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
Say, 'I seek refuge in the Lord of the dawn,	تُو کہہ دے کہ میں (چیزوں کو) پھاڑ کر (نئی چیز پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۲﴾
'From the evil of that which He has created,	اُس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۳﴾
'And from the evil of the night when it overspreads,	اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا ہو۔	وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۴﴾
The day when mankind will be like scattered moths,	جس دن لوگ پراگندہ تڈیوں کی طرح ہو جائیں گے۔	وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿۵﴾
'And from the evil of the envier when he envies.'	اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔	وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

Introduction and Short Commentary

Background


This Surah was revealed to the Holy Prophet saw in Medina.

Meaning

Allah has given us the ability to choose right from wrong. Those who disobey Allah and His commandments willingly are evil and are living in darkness. We live in a world full of good and evil people. Evil people like to create disorder in the earth whereas good people want to create peace in this World. Those with an evil mind like to break the knots of relationships (The knots that Allah has tied) and cause the disorder. Evil minded people are jealous and try to harm others. They continuously look for ways to put others down, so they can be on the top. Allah is the only one who can guide us to the right path. Thus, we must only rely on Allah – The Lord of Dawn – to help us to stay away from darkness and evil.

Key words

- Falaq: dawn
- Evil people: people who like to create disorder
- Knots: knot of relationship
- Evil of the envier: people who are jealous and like to harm

		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
Perished be the two hands of Abu Lahab, and he will perish.	ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿٢﴾
His wealth and what he has earned shall avail him not.	اُس کے کچھ کام نہ آیا اُس کا مال اور جو کچھ اُس نے کمایا۔	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٣﴾
Soon shall he enter into a blazing fire;	وہ ضرور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔	اسَّيْضِلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٤﴾
And his wife too, who goes about slandering.	اور اُس کی عورت بھی، اس حال میں کہ وہ بہت ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی۔	وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٥﴾
Round her neck shall be a halter of twisted palm-fibre.	اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا مضبوطی سے بٹا ہوا ریشہ ہوگا۔	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٦﴾

Introduction and Short Commentary:

There is complete unanimity of opinion among Muslim scholars and Commentators of the Qur'an that this Surah was revealed at Mecca during the early years of the Call. Noldeke and Muir also subscribe to this view. Some scholars, however, are of the opinion that the Surah was the fifth to be

revealed, the four Surahs Al-'Alaq, Al-Qalam, Al-Muzzammil and AlMuddaththir preceding it. It seems to deal with the people having red-faces and fiery tempers; hence its title. In Surah Al-Kauthar the Holy Prophet was given a twofold promise about the great and rapid increase of his followers and about the failure of the machinations of his enemies against Islam. In the immediately preceding Surah—An-Nasr—reference was made to the first part of the promise, the present Surah refers to its second part.

In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾
Hast thou not seen how thy Lord dealt with the People of the Elephant?	کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿٢﴾
Did He not cause their plan to miscarry?	کیا اُس نے اُن کی تدبیر کو رائیگاں نہیں کر دیا؟	أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ﴿٣﴾
And He sent against them swarms of birds,	اور اُن پر غول در غول پرندے (نہیں) بھیجے؟	وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٤﴾
Which ate their carrion, striking them against stones of clay.	وہ اُن پر کنکر ملی خشک مٹی کے ڈھیلوں سے پتھراؤ کر رہے تھے۔	تَرْمِيمِهِمْ بِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٥﴾
And thus made them like broken straw, eaten up.	پس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٦﴾

Introduction and Short Commentary:

Surah Al-Fil was revealed very early in Mecca. Its title is taken from the expression *Ashaabul-Fil* (owners of the Elephant). This Surah refers to the invasion of Mecca by Abraha Ashram. He was the viceroy in Yemen of the Christian King of Abyssinia who came with the intention of destroying Ka'bah in order to obtain favour with the Negus, the King of Abyssinia, and to break the national unity of Arabs.


Abraha marched in Mecca with an army of 20,000 in 570 A.D., the year of Holy Prophet SAW birth, to raze (destroy) the Ka'bah to the ground. He also had a number of Elephants with him. Arriving at a place a few miles from Mecca, he sent for the leaders of Quraish in order to negotiate the fate of Ka'bah with them.

The Quraish delegation, led by the honourable Abdul-Muttalib, grandfather of Holy Prophet SAW, met Abraha who treated him with great honour. But to Abraha's great surprise and contempt, Abdul-Muttalib, instead of beseeching that the Ka'bah be spared, only requested that his two hundred camels, which Abraha's men had seized, be restored.

Abdul-Muttalib, on being told by Abraha that he had not expected such a paltry (worthless) request from him when he had come to destroy their house of worship, poured out the anguish of his heart and expressed his firm faith in the invulnerability of the Ka'bah in the words, —I am the master of the camels and Ka'bah has a master of its own Who will protect it|| (Al-Kamil, Vol. I).

Abraha's army had hardly moved when the divine scourge overtook them. A plague or epidemic of the nature of smallpox, completely destroyed his army and their rotting bodies were eaten up by swards of birds.

*This commentary is taken from Holy Quran Translation by Hadhrat Mirza Tahir Ahmad RA

		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱)
Because of the attachment of the Quraish —	قریش میں باہم ربط پیدا کرنے کے لئے	لِیَلْفِ قُرَیْشٍ (۲)
His making them attached to <i>their</i> journey in winter and summer —	(ہاں) اُن میں ربط بڑھانے کے لئے (ہم نے) سردیوں اور گرمیوں کے سفر بنائے ہیں۔	اَلْفِیْهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ (۳)
They should worship the Lord of this House,	پس وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔	فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ بَدَاۗءِ الْبَيْتِ (۴)
Who has fed them against hunger, and has given them security against fear.	جس نے انہیں بھوک سے (نجات دیتے ہوئے) کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔	الَّذِیْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (۵)

Introduction and Short Commentary:

This Surah, like the Surah Al-Fil, was revealed at Mecca in the early years of the Call (prophethood). Though an independent surah, complete in all respects, its subject matter is so closely related to Surah Al-Fil that it has been wrongly regarded by some commentators as its component part.

In Surah Al-Fil a brief but graphic and forceful description was given of total destruction of Abraha's army, who had come to destroy the Ka'bah, by a heavenly scourge (plague) which took the form of an infectious variety of smallpox.

In the present Surah, God reminds the Quraish that it behoved (expected) them to worship 'the Lord of House'. In Surah Al-fil mention was made of an enemy of the

Ka'bah and of the divine punishment that overtook him for his audacity to launch an attack on it. In this Surah it is stated, how in the utterly bare and arid valley of Mecca God provided the custodians of this House with every kind of food and made them secure against fear and danger.

Quraish used to travel to Yemen in winter, and Syria in the summer for trade purposes. Through these journeys the Quraish brought the necessities of life to Mecca. By this trading activity, they developed a certain prestige, added prosperity to their town, and also became acquainted with the prophecies about the appearance of a great Prophet in Arabia by coming into contact with the Jew of Yemen and the Christian of Syria who knew those prophecies. It constituted a great divine favour upon them that by their journeys to these places they, besides other advantages accruing from these journeys, were being prepared to accept the Holy Prophet (P.B.H.M) whose appearance was expected to take place soon. If Abraha had not been destroyed, the Quraish would not have loved journeying to these places and their journeys would not have been safe. The destruction of Abraha thus besides opening the way for trade journeys for the Quraish, made the Ka'bah the more sacred in the eyes of the Arabs for whom it was already a place pilgrimage

		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱)
Hast thou seen him who rejects religion?	کیا تُو نے اس شخص پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟	اَرَءَيْتَ الَّذِیْ یُكْذِبُ بِالْذِّیْنِ (۲)
That is the one who drives away the orphan	پس وہی شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔	فَذٰلِكَ الَّذِیْ یُدْعٰۤی الْیَتٰیْمَ (۳)
And urges not the feeding of the poor.	اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔	وَ لَا یَحْضُرْ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْکِیْنِ (۴)
So woe to those who pray,	پس اُن نماز پڑھنے والوں پر ہلاکت ہو۔	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ (۵)
But are unmindful of their Prayer.	جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔	الَّذِیْنَ ہُمْ عَنْ صَلَاتِہِمْ سَاهُوْنَ (۶)
They like to be seen of men,	وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔	الَّذِیْنَ ہُمْ یُرَآءُوْنَ (۷)
And withhold legal alms.	اور روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں بھی (لوگوں سے) روکے رکھتے ہیں۔	وَ یَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ (۸)

Introduction and Short Commentary:

Al-Maʿun means small household articles of common use, such as axe, cooking pot, etc. The Surah is among those chapters which were revealed very early at Mecca. In the preceding Surah, the Quraish were told that God had granted them peace and security from danger and had provided them with all the necessities of life purely out of His special grace and mercy and not due to any effort on their part or because they deserved these favors. They were told, therefore, that as an act of gratitude they should have rendered sincere and devoted service to their Gracious Creator. Instead, they became engrossed in the pursuit of worldly affairs and took to idol-worship. In this Surah it is stated that love of the world caused nations to lose faith in Hereafter and to consign God to oblivion. It also deals with the two basic principles of Islam whose neglect constitutes denial of Religion itself:


1. Worship of God
2. Service to fellow human beings.

This Surah speaks of two very deadly social ills which if not scrupulously guard against, are calculated to bring about the total decline and disintegration of a community.

1. The failure to take proper care of the orphans kills in a people the spirit of sacrifice
2. Neglect of the poor and the needy deprives a useful section of the community of all the initiative and the will to improve their Lot.

In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾
The great Calamity!	خوابِ غفلت سے جگانے والی (ہولناک) آواز۔	الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾
What is the great Calamity?	وہ ہولناک آواز کیا ہے؟	مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾
And what should make thee know what the great Calamity is?	اور تجھے کیا سمجھائے کہ وہ ہولناک آواز کیا ہے؟	وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٤﴾
The day when mankind will be like scattered moths,	جس دن لوگ پراگندہ ٹڈیوں کی طرح ہو جائیں گے۔	یَوْمَ یَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ ﴿٥﴾
And the mountains will be like carded wool.	اور پہاڑ ڈھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٦﴾
Then, as for him whose scales are heavy,	پس وہ جس کے وزن بھاری ہوں گے۔	فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهُ ﴿٧﴾



He will have a pleasant life.	تو وہ ضرور ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٨﴾
But as for him whose scales are light,	اور وہ جس کے وزن ہلکے ہوں گے۔	وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٩﴾
Hell will be his <i>nursing</i> mother.	تو اُس کی ماں باویہ ہوگی۔	فَأُمُّهُ بَاوِيَةٌ ﴿١٠﴾
And what should make thee know what that is?	اور تجھے کیا سمجھائے کہ یہ کیا ہے؟	وَ مَا أَدْرَاكَ مَا بِيَوْمِ ﴿١١﴾
<i>It is</i> a burning Fire.	ایک بھڑکتی ہوئی آگ	نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١٢﴾

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>رکوعہا ۱</p> </div> <div style="text-align: center;"> <h2>سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ ۱۰۲</h2> </div> <div style="text-align: center;">  <p>آیتها ۹</p> </div> </div>		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾
Mutual rivalry in seeking <i>worldly</i> increase, diverts you from God	تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ نے۔	اَلْهٰكُمُ التَّكْوِيْنُ ﴿٢﴾
Till you reach the graves.	یہاں تک کہ تم نے مقبروں کی بھی زیارت کی۔	حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٣﴾
Nay! you will soon come to know <i>the truth</i> .	خبردار! تم ضرور جان لو گے۔	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾
Nay again! you will soon come to know	پھر خبردار! تم ضرور جان لو گے۔	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾
Nay! if you only knew with certain knowledge,	خبردار! اگر تم یقینی علم کی حد تک جان لو۔	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿٦﴾
You will surely see Hell <i>in this very life</i> .	تو ضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے۔	لَتَرُوْنَ الْجَهَنَّمَ ﴿٧﴾
Aye, you will surely see it with the eye of certainty <i>in the Hereafter</i> .	پھر تم ضرور اُسے آنکھوں دیکھ یقین کی طرح دیکھو گے۔	ثُمَّ لَتَرُوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٨﴾

Then, on that day you shall be questioned about the favours <i>bestowed upon you</i>	پھر اس دن تم ناز و نعم کے متعلق ضرور پوچھے جاؤ گے۔	ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾
--	--	--

Introduction and Short Commentary

Mutual rivalry means man 's desire to compete with others in wealth, position or honour. Mutual rivalry lies at the root of all human troubles. It is man's great misfortune that this passion for acquiring worldly things has no limits and can leave him with no time to think about God or the Hereafter. He remains engaged in these things till death comes upon him and then he finds that he had wasted his precious life in idle pursuits (objective). The Surah gives a warning that this world and material goals are temporary so, man should try to set spiritual goals. Man did not use common sense otherwise; he would have seen hell in this very life. It means that he did not realize that engrossment (engagement) in material advantages is temporary and causes his total moral ruin (Hell in this world). The Hell of next life is hidden from the human eye, but can be recognized by those who reflect upon worldly desire and differentiate between good and evil. On the Day of Judgement, man will be accountable of his worldly deeds and the favours which he had in this world.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>رکوعها ۱</p> </div> <div style="text-align: center;"> <h1>سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ ٩٥</h1> </div> <div style="text-align: center;">  <p>آیتها ٩</p> </div> </div>		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
By the Fig and the Olive, And by ^[b] Mount Sinai	قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اور طور سینین کی۔	وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ ﴿٢﴾ وَ طُورِ سِينِينَ ﴿٣﴾
And by this City of Security	اور اس امن والے شہر کی۔	وَ بِذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٤﴾
Surely, we have created man in ^[a] the best make;	یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ارتقائی حالت میں پیدا کیا۔	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٥﴾
Then, <i>if he acts unjustly</i> , we degrade him as the lowest of the low	پھر ہم نے اُسے نچلے درجے کی طرف اُتوتے والوں میں سب سے نیچے اُتوٹا دیا۔	ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٦﴾
^[a] Save those who believe and do good works; so for them is an unfailling reward.	سوائے اُن کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے۔ پس اُن کے لئے غیر منقطع اجر ہے۔	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٧﴾
Then what is there to give the lie to thee, after <i>this</i> , with regard to the judgement?	پس اس کے بعد وہ کیا ہے جو تجھے دین کے معاملہ میں جھٹلانے؟	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ﴿٨﴾
Is not Allah the Best of Judges?	کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں؟	أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكَمِينَ ﴿٩﴾

In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.	اللہ کے نام کے ساتھ جو نے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾
Surely, We sent it down on the Night of Destiny.	یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے۔	اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ﴿٢﴾
And what should make thee know what the Night of Destiny is?	اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے۔	وَ مَا اَدْرٰکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٣﴾
The Night of Destiny is better than a thousand months.	قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔	لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٤﴾
Therein descend angels and the Spirit by the command of their Lord — with every matter.	بکثرت نازل ہوتے ہیں اُس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے۔ ہر معاملہ میں۔	تَنْزِلُ الْمَلٰٓئِکَةُ وَ الرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۗ مِنْ کُلِّ اَمْرٍ ﴿٥﴾
It is all peace till the rising of the dawn.	سلام ہے۔ یہ (سلسلہ) طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔	سَلٰمٌ ۙ بِیْ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٦﴾

HADITH:

Cleanliness:		
Cleanliness is a requirement of faith	صفاۓ ایمان کا حصہ ہے۔	الطَّهْوْرُ شَطْرُ الْاِیْمَانِ

Paradise is under the feet of Mother:		
Paradise is under the feet of mothers.	جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔	الْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ۔

Abuse of Sin:		
Abuse by (or of) a Muslim is an evil.	مسلمان کا گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ (بخاری)	سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ۔

Criteria of a True Muslims:

A (true) Muslim is he who keeps protected other Muslims from his tongue and hands.

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ.

حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (بخاری، کتاب الایمان)

To keep protected another Muslim from one's tongue, implies abstaining from his backbiting, or accusing him unjustly, or abusing him. To keep protected another Muslim from one's hand, also implies abstaining from causing any physical injury to him. *Ahadith* No.3, No.12 and No.27 deal with the same issues.

کسی دوسرے مسلمان کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھنے سے مراد اس کی غیبت نہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ الزام تراشی اور گالیاں دینا بھی اس کے تحت آجاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھنے کا مطلب ہے، ان سے مار پیٹ نہ کرنا اور کسی طرح سے بھی انہیں جسمانی تکلیف نہ پہنچانا۔ احادیث نمبر ۳، ۱۲ اور ۲۷ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔

Rights of Neighbour:

Whoever believes in ALLAH and the Day Of judgement should not hurt his neighbour.

جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو دکھ نہ پہنچائے۔ (بخاری)

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ

The high regard in which one's neighbour is held and the emphasis placed on the good treatment of one's neighbour is such that it is mentioned just after the command to believe in Allah and the Hereafter. In the Holy Qur'an (4:37), this command is mentioned soon after the command to worship Allah, and avoid associating any gods with Allah. This indicates its importance.

اس حدیث میں ہمسایہ کا اتنا بلند درجہ بیان ہوا ہے اور اس سے حسن سلوک کی تاکید اس قدر زور دے کر کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کے فورا بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم (النساء: ۳۷) میں بھی ہمسایہ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کے فورا بعد دیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت ظاہر ہے۔

Be Thankful to People:

One who is not thankful to people Is not thankful to ALLAH.

لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

نہیں شکر کرتا اللہ کا جو نہیں شکر کرتا بندوں کا۔ (ترمذی)

Think Before you Speak:	
Speaking (without thinking) leads to trouble.	إِذَا بَلَغَ الْبَالُغُ بِالْمَنْطِقِ
مصیبت موقوف ہوتی ہے (بغیر سوچے سمجھے) بات کرنے پر۔	
<p>One has no control over the good or bad effects of his words once these have been uttered. It is, therefore, advisable to think before speaking. Moreover, brief and gracious speech considerably covers the bad AHADITH — AHADITH WITH COMMENTARY 3.2 95 BASICS OF RELIGIOUS EDUCATION - FIFTH EDITION effects due to any shortcomings that may be present in the speech. Another Hadith on the subject states: 'Modesty and brevity of speech are two characteristics of faith.' The Holy Qur'an advises: 'Speak graciously to the people' (2:84)</p>	<p>جو بات منہ سے نکل جائے اس کے اچھے یا بُرے اثرات پر انسان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اس لئے بات کرنے سے قبل ہی اچھی طرح اس بات کو پرکھ لینا بہر حال بہتر ہے۔ پھر کلام اگر مختصر اور انداز کلام نرم ہو تو کلام میں موجود ممکنہ خامیوں کے بد اثرات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ یہی مضمون ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوا ہے ”حیا اور کم گوئی دونوں ایمان کی خوبیاں ہیں“۔ قرآن کریم نے خاص طور پر نرم انداز کلام اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ (البقرہ: ۸۴)</p>

Importance of Motives:	
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ	
<p>Deeds are judged by motives, and everyone is rewarded according to his motives. (Bukhari-Kitab Fazz'ilul Qur'an)</p>	<p>اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص اپنی نیت کے مطابق بدلہ پاتا ہے۔ (بخاری کتاب فضائل القرآن)</p>

Against of Backbiting:	
Backbiting is worse than killing	غیبت کرنا قتل کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔
	الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ-

<p>Be the First to Greet</p>	<p>- سلام کہنے میں پہل</p>
<p>Allah prefers those who hasten to be the first to greet others (saying "Assalamu `alaikum") (Abu-Dawood)</p>	<p>إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو سلام کہنے میں پہل کرے۔ (ابو داؤد)</p>
<p>that saying something virtuous to someone is in itself an act of virtue. When we meet a fellow Muslim, what could be a more virtuous expression of greeting than saying "Assalamu alaikum- May peace be upon you". The Holy Qur'an (2:149) commands us to excel each other in the performance of good deeds. So, if a Muslim tries to be the one who says Assalamu Alaikum first (i.e., before the other person), he can earn Allah's pleasure and nearness to Him. The Holy Prophet SAW was once asked, "Who should say Assalamu Alaikum first when two persons meet?". He responded, " The one who is nearer to God". This means that by trying to be the first to say Assalamo Alaikum, one can earn nearness to Allah.</p>	<p>ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ "اچھی بات کہنا بھی نیکی ہے" اور بوقت ملاقات کسی مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا دینے سے اچھا کلمہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم (البقرة: 149) ہمیں حکم دیتا ہے۔ " فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ " یعنی نیکیوں کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو۔ پس ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو سلام کہنے میں پہل کرے تو خدا تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے خدا کا مقرب بن سکتا ہے۔</p> <p>ترمذی میں یہ حدیث مذکور ہے: آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ جب دو افراد ملیں تو ان میں سے کس کو چاہیے کہ پہلے سلام کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "وہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہے۔" اس حکیمانہ فرمان سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کر کے خدا تعالیٰ کا مقرب بن جائے۔</p>

<p>Promise of a Believer</p>	<p>- مومن کا وعدہ</p>
<p>The promise of a believer is as certain as a thing in hand</p>	<p>عِدَّةُ الْمُؤْمِنِ كَأَخْذِ الْكَفِّ مومن کا وعدہ ایسا ہی سچا ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ میں دے دی جائے۔</p>

Importance of Truth	سچائی کی اہمیت
Truth saves, false hood Destroys.	<p>الصِّدْقُ يُنْجِي وَ الكَذِبُ يُهْلِكُ۔</p> <p>سچائی بچاتی ہے اور جھوٹ تباہ کرتا ہے۔</p>

Persistence in Prayer:	دُعا میں مداومت
It is a sin to abandon praying.	<p>تَرَكَ الدُّعَاءَ مَعْصِيَةً۔</p> <p>دُعا کرنا چھوڑ دینا گناہ ہے۔</p>
<p>The Holy Qur'an (25:78) says, "Say to the disbelievers: What would my Lord care for you, were it not for your prayers." It is obvious, therefore, that mankind is constantly in need of praying to God. There is no substitute for that. The Holy Qur'an (19:66) says, "So worship Him alone and be steadfast in His service."</p>	<p>قرآن کریم (الفرقان: ۷۸) فرماتا ہے " (اے رسول۔) تو ان سے کہہ دے کہ میرا رب تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا ہے اگر تمہاری طرف سے دُعا (اور استغفار) نہ ہو۔" اس سے ظاہر ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ ضرورت ہے کہ وہ خُدا تعالیٰ کے حضور دُعا میں لگا رہے۔ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ قرآن کریم (مریم: ۶۶) کا ارشاد ہے کہ انسان خُدا کی عبادت کرے اور اُس کے حضور ثابت قدمی سے عرض گزارتا رہے۔</p>

Importance of Salat	نماز کی اہمیت
Surely, between a person and Shirk (making partners beside Allah), there is the Neglect of Salat (daily prayers) (Muslim).	<p>إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةِ۔</p> <p>یقیناً انسان اور شرک و کفر کے درمیان ترکِ نماز ہے۔ (مسلم)</p>

<p>The Best Action</p>	<p>بہترین اعمال</p>
<p>The best action in the sight of Allah is that which is done with regularity, even if it is small.</p>	<p>أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ</p> <p>اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہترین اعمال وہ ہیں جو باقاعدگی سے کئے جائیں خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔</p>
<p>No act of virtue is too small or insignificant to be disregarded. A good deed, no matter how small it may seem, if it is done persistently, it brings about a noble transformation in a person. The Holy Qur'an (13:23, 41:31) requires us to show perseverance in performing good deeds.</p>	<p>کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوئی نیک عمل اگر باقاعدگی سے کیا جاتا رہے تو خواہ بظاہر وہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو، وہ انسان کے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول عمل بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ نیک اعمال کو ثابت قدمی سے کرتے چلے جاؤ۔ (الزَّعْد: ۲۳، حُم سَجْدَة: ۱۳)</p>

<p>Learning and Teaching of the Holy Qur'an</p>	<p>قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا</p>
<p>The best among you is the one who learns the Qur'an and teaches it. (Bukhari, Kitab Faza'ilul Qur'an)</p>	<p>خَيْرُكُمْ مَن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ</p> <p>تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر اسے سکھائے۔ (بخاری کتاب فضائل القرآن)</p>
<p>The Holy Qur'an (2:130) informs us about the prayer of prophets Ibraheem AS and Isma'eel AS, as they erected the Ka'bah, when they prayed to God to send a prophet who would recite God's words to His people and "would teach them the Book and wisdom." This prayer was fulfilled with the advent of the Holy Prophet Muhammad PBUH, who taught the best moral values and wisdom through the Holy Qur'an. In another Hadith (Muslim), the Holy Prophet said:</p>	<p>قرآن کریم (البقرة: 130) میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے ایک عظیم الشان نبی کے مبعوث ہونے کے لئے اپنی ذریت کے حق میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ انہیں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت سکھائے۔ یہ دعا آنحضرت ﷺ کی ذات میں پوری ہوئی اور آپ نے دنیا کو قرآن کریم کے ذریعے حکمت کی تعلیم دی۔</p>

<p>'Keep reading the Qur'an for it will intercede for its readers on the Day of Judgment.'</p>	<p>پس قرآن کریم کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، آنحضرت ﷺ کی پیروی کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں (مسلم) آپ ﷺ نے فرمایا قرآن کریم کو پڑھتے رہو کیونکہ جزا سزا کے دن یہ (قرآن) ان کے حق میں شفاعت کرے گا جو اس کو پڑھنے والے ہیں۔</p>
--	---

<p>Against Hearsay</p>	<p>سُنّی سُنّائی بات</p>
<p>Hearsay is not like seeing (Ahmed Bin Hunbal)</p>	<p>لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ سُنّی سُنّائی بات دیکھی ہوئی کے برابر نہیں ہے۔</p>
<p>Believing in rumours, and using them as a basis of one's actions, is the cause of much trouble in the world. The Holy Qur'an (49:7) says: "O ye who believe! if an unrighteous person brings you any news, ascertain the correctness of report fully, lest you harm a people in ignorance, and then become repentant for what you have done." Although Islam emphasizes the need for investigation and observation for the purpose of confirmation, Muslims are not allowed to follow the dictates of needless curiosity, for it causes mischief (49:13).</p>	<p>افواہوں پر یقین کر لینے سے دنیا میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم (الحُجرات: ۷) میں فرماتا ہے "اے مومنو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ناواقف کی وجہ سے کسی قوم پر حملہ کر دو اور پھر اپنے کئے پر شرمندہ ہو جاؤ"۔ اگرچہ اسلام تحقیق کرنے اور مشاہدے اور معائنے پر زور دیتا ہے، لیکن بے جا تجسس کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے فساد پھیلتا ہے۔ (الحُجرات: ۱۳)</p>
<p>ALLAH's Help</p>	<p>اللہ تعالیٰ کی مدد</p>
<p>God helps a person who helps his brother (in mankind) (Bukhari; Muslim Kitabuz Zikr)</p>	<p>اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ اللہ تعالیٰ اُس شخص کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے۔ (بخاری)</p>

The Holy Qur'an (5:3) commands us to help one another in acts of righteousness and piety, and prohibits us from helping one another in matters of sin or in committing excesses against others. If adopted, this golden principle would win a twofold reward: helping one's fellow human beings in righteous deeds would make one righteous too, and ii. one would be fulfilling one's duty towards them. The Qur'an (45:20 and 7:129) tells us that only the righteous receive God's help and only they prosper.

قرآن کریم (المائدہ: ۳) کا فرمان ہے ”تم نیکی اور تقویٰ (کے کاموں) میں باہم (ایک دوسرے کی) مدد کیا کرو۔“
اگر انسان اس سنہری اصول کو اپنالے تو اسے دُہرا فائدہ ہے۔ وہ خدا کے بندوں کی مدد کے حقوق العباد ادا کرنے والا بھی بن رہا ہوگا اور چونکہ مدد صرف نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں کریگا، لہذا وہ خود بھی نیک اور متقی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ متقی شخص کی ضرور مدد کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہوتا ہے (الجاثیہ: ۲۰) اور اس کی مدد سے ہی متقیوں کا انجام ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ (الاعراف: ۱۲۹)

<p>Importance of Good Conduct.</p>	<p>اچھے اخلاق کی اہمیت</p>
<p>Nothing is heavier in the scales (of Allah) than the excellence of conduct (Abu-Dawood)</p>	<p>مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ - خدا کے تول میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ وزن نہیں رکھتی۔ (ابو داؤد)</p>
<p>In a large number of Ahadith, the Holy Prophet (SAW) laid much emphasis on the improvement of moral and social conduct. In this Hadith, he declares that nothing is heavier in the scales of Allah than the excellence of conduct. Hadith No.46 is another example, which states that the one who is not thankful to people is not thankful to Allah. In fact, excellence of conduct is the root of all virtues, and spirituality is but an advanced state of good conduct. According to the Qur'an, the Holy Prophet (SAW) possessed sublime moral excellence (68:5), and he was an excellent model for mankind (33:22). That is why, he repeatedly emphasised on the importance of good moral conduct, and he is undoubtedly the best authority to do so.</p>	<p>رسول اکرم ﷺ نے اخلاق کی درستی پر بے شمار احادیث میں بہت زور دیا ہے۔ حتیٰ کہ اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق سے بڑھ کر خدا کے ترازو میں کسی کی چیز کا وزن نہیں۔ مثال کے طور پر حدیث نمبر ۱۶ (حصہ ۳، ۳) میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ دراصل اعلیٰ اخلاق ہر نیکی کی بنیاد ہیں۔ حتیٰ کہ روحانیت بھی درحقیقت اخلاق ہی کا ایک ترقی یافتہ مقام ہے۔ قرآن کریم (القلم: ۵) کے مطابق آنحضرت ﷺ تعلیم اور عمل میں نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر قائم تھے۔ اور (الاحزاب: ۲۲) آپ ہم سب کے لئے ایک کامل نمونہ ہیں۔ انہی حقائق کی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے اعلیٰ اخلاق کی اہمیت بار بار بیان کی ہے اور بلاشک آپ اس امر میں سب سے زیادہ اہل ہیں۔</p>

<p>Best Remembrance of ALLAH.</p>	<p>بہترین ذکرِ الہی</p>
<p>The best remembrance (of Allah) is (the Kalimah) “there is no god but Allah” and the best prayer is “all praise belongs to Allah” (Tirmidhi)</p>	<p>أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔</p> <p>بہترین ذکر کلمہ تو حید ہے یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بہترین دعا الحمد لله ہے۔ (ترمذی کتاب الدعوت)</p>

<p>Importance of Sadqah:</p>	<p>صدقہ کی اہمیت</p>
<p>Save yourself from the Fire, even if it is by offering a fragment of a date (as Sadaqah), and for the one who does not even have that much, by saying a kind word. (Bukhari-Kitab-ul-Adab)</p>	<p>اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ۔ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔</p> <p>آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا (صدقہ) دینے سے ایسا ہو۔ اگر کسی کے پاس یہ بھی نہیں تو عمدہ بات کہنے سے بھی (یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے)۔ (بخاری کتاب الادب)</p>
<p>There are several ways of spending one’s wealth in the cause of Allah. Sadaqah is one such way. This Hadith signifies that even a minor quantity of Sadaqah may save its donor from the hardships of this world as well as from the Hell in the Hereafter. Let it be clear that Sadaqah means helping the needy voluntarily, to win Allah’s pleasure. It must be given out of one’s lawfully earned wealth and, in no case, should its recipient be put under any obligation or reproach. (Al-Qur’an 2:263, 2:265). In case monetary help is not needed, or one cannot afford to spare money for Sadaqah, a word of goodness, a piece of useful advice or consoling a distressed person, are all acts that can also be called Sadaqah. (Al-Qur’an 2:264, Hadith No.21).</p>	<p>اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ جن میں سے ایک طریقہ صدقہ بھی ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ دنیاوی پریشانیوں سے بھی محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے خواہ یہ صدقہ کھجور کے ٹکڑے جتنا قلیل ہی کیوں نہ ہو۔</p> <p>واضح رہے کہ صدقہ سے مراد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے رضا کارانہ طور پر پورا کیا جائے۔ صدقہ اپنے پاکیزہ مال میں سے دیا جائے۔ بعد میں نہ تو صدقہ لینے والے کو اپنا احسان جتانیں اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف دیں۔ (البقرہ: ۲۶۳، ۲۶۵)</p> <p>اگر مالی مدد کی ضرورت نہ ہو یا اسکی سکت نہ ہو تو اچھی بات کہنا، مفید مشورہ دینا اور ایک پریشان حال کی دلجوئی کرنا وغیرہ یہ سب امور صدقہ کے تحت ہی آتے ہیں۔ (البقرہ: ۲۶۳) (دیکھئے حدیث نمبر ۲۱)</p>

<p>Love for the Holy Prophet (S.A.W)</p>	<p>حضرت رسول کریم سے محبت</p>
<p>None of you can be a true believer unless he loves me more than his parents, children, and all the people combined. (Bukhari, Vol.I, Kitabul Eeman)</p>	<p>لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ تم میں سے کوئی (سچا) مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ (بخاری جلد اول کتاب الایمان)</p>
<p>The Holy Prophet (S.A.W) is the greatest benefactor of humanity as he established a permanent system for our spiritual well-being. We all, in turn, should love him far more than our parents, children and friends (9:24). It is important to note that our love for the Holy Prophet (S.A.W) is to our own benefit; it would in turn generate Divine love for us, thus opening the doors of unlimited spiritual progress for the believers (3:32, 4:70). A living example of this fact is found in the person of the Promised Messiah AS who, according to his own statement, attained his grand status of the Promised Messiah solely due to his immense love for the Holy Prophet (S.A.W). (Roohani Khazaa'in, Vol. 1, Braheen-iAhmadiyya, p. 598)</p>	<p>آنحضرت ﷺ محسن انسانیت ہیں۔ آپ نے رہتی دنیا تک مومنوں کی روحانی پرورش کے سامان کر دیئے۔ اس لئے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری آپ سے محبت ان تمام محبتوں سے بہت زیادہ ہو جو کہ ہمارے دلوں میں اپنے والدین، بچوں اور دیگر دوستوں کے لیے ہوتی ہے۔ (التوبہ: ۹) ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس فرمان پر عمل کرنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ سے محبت کے نتیجے میں محبت الہی ملتی ہے۔ پھر مومن کیلئے لامحدود روحانی درجات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ (النساء: ۷۰ - آل عمران: ۳۲) اس امر کی زندہ مثال حضرت مسیح موعودؑ ہیں۔ آپ کے اپنے فرمان کے مطابق آپ کو مسیح موعود کا عہدہ صرف اور صرف محبت رسولؐ کی بنا پر ملا۔ (روحانی خزائن جلد نمبر ۱، براہین احمدیہ، حاشیہ در حاشیہ، صفحہ ۵۹۸)</p>

PRAYERS:

<p>Starting a Meal:</p>	
<p>شروع کرتی ہوں اللہ کے نام اور اسکی برکت کے ساتھ</p>	<p>بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَکَةِ اللّٰهِ</p>
<p>Finishing a Meal:</p>	
<p>تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا</p>	<p>الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ</p>

<p>For Mercy and Forgiveness:</p>	
<p>And Say, My Lord, forgive and have mercy and Thou art the best of those who show mercy.</p>	<p>وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝ اور کہہ، اے میرے رب۔ بخش دے اور رحم کر اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ (المثو منون: ۱۱۹)</p>

<p>Leaving Home:</p>	
<p>(I leave my house), in the name of Allah and I put my trust in Allah. (One has) no power (to be safe from sins) and no power (to do good) except with (the help of) Allah. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ (یا ہر جاتا ہوں) اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور نہیں کوئی طاقت (گناہ سے بچنے کی) اور نہیں کوئی طاقت (نیکی کرنے کی) سوائے اللہ تعالیٰ (کی مدد) کیساتھ۔</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ</p>

<p>Entering Home:</p>	
<p>اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں گھر میں آنے کے وقت کی اور بھلائی گھر سے باہر نکلنے کے وقت کی۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے داخل ہوئے ہم اور اپنے رب العزت پر بھروسہ کیا ہم نے۔</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَ لَجْنَا وَ عَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا.</p>
<p>O Allah! I supplicate You to grant me the best of entries (to my house) and the best of exits. In the name of ALLAH we enter and in Allah, our Lord, we put our complete trust.</p>	

On Beginning the Fast:	
I intend to keep this morning's fast, in the month of Ramadan.	<p>وَبَصَوْمِ عَدِ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ -</p> <p>میں ماہ رمضان میں صبح کے وقت روزہ رکھنے کی نیت کرتا / کرتی ہوں۔</p>

On Ending the Fast:	
O ALLAH I observed the fast in Your sake. I believe in You and I put my trust in You and in end the fast with what You have provided me.	<p>اَللّٰهُمَّ اِنِّي لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ اَمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَي رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ -</p> <p>اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا / لائی اور تجھ پر توکل کیا اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا / کرتی ہوں۔</p>

Getting into a Vehicle	سواری کرنے کی دُعا
In the name of Allah be its course and its morning. My Lord is assuredly Most Forgiving, Merciful. (11:42)	<p>بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا اِنَّ رَبِّي لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝</p> <p>اللہ کے نام کیساتھ ہی اسکا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ (ہود: ۴۲)</p>

<p>To get rid of Difficulties</p>	<p>مشکلات دُور ہونے کی دُعا</p>
<p>O Allah! I seek Your protection against the hardship of afflictions, coming of misfortune, bad decision-making and against mocking by enemies.</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ دَرْكِ الشَّقَاءِ وَ سُوءِ الْقَضَاءِ وَ شِمَاتِهِ الْأَعْدَاءِ۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بلا کی تکلیف سے اور بدبختی کے آنے سے اور بُرے فیصلوں سے اور دشمن کے خوش ہونے سے۔</p>

<p>To Put on a New Dress:</p>	<p>نیا کپڑا پہننے کی دُعا</p>
<p>O Allah! All praise belongs to You, me who gave this new dress</p>	<p>اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ۔</p>
<p>The act of putting on a new dress gives one a sense of happiness and prosperity. At this moment also, a believer praises Allah, who provided him with this bounty. Thus, through this prayer, we may achieve real and lasting prosperity.</p>	<p>اے اللہ تعالیٰ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے جیسا کہ تو نے اپنے فضل سے پہنایا۔ نیا لباس پہننے سے خوشی اور خوش حالی کا احساس ہوتا ہے اس موقع پر بھی مومن کا دل اپنے خدا کی حمد سے لبریز ہو جاتا ہے کیونکہ اصل اور مستقل خوشحالی کا منبع تو خدا تعالیٰ ہی ہے جس نے نئے لباس کی نعمت عطا کی۔</p>

<p>For Steadfastness and Allah's Help:</p>	<p>ثابت قدمی اور نصرتِ الہی کی دُعا</p>
<p>O our Lord, pour forth steadfastness upon us and make our steps firm, and help us against the disbelieving people. (2:251)</p>	<p>رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّثْ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ (البقرہ: ۲۵۱)</p>

Show mercy with your Parents:	
اے میرے رب! ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ (بنی اسرائیل: ۲۵)	رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا
Oh, My Lord, have mercy on them as they nourished me in my childhood. (17:25)	

On Going to Bed:	رات کو سونے کے وقت کی دُعا
O Allah, in your name I die (sleep) and I become alive (awake). (Bukhari Kitab-ud Da`awaat)	اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَ أَحْيِي۔ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا (سوتا / سوتی) ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ (بیدار ہوتا / ہوتی) ہوں۔ (بخاری کتاب الدعوات)
On Waking Up:	نیند سے بیداری کی دُعا
All praise belongs to Allah who brought us back to life (woke us up), after causing us to die (sleep), and to Him will we return.	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت (نیند) دینے کے بعد زندہ (بیدار) کیا اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔

When its Rain	بارش ہونے پر دُعا
O Allah, make it a source of mercy, and do not make it a source of punishment	اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَبَبَ رَحْمَةٍ. وَ لَا تَجْعَلْهُ سَبَبَ عَذَابٍ۔ اے اللہ۔۔ بنا دے اس (بارش) کو رحمت کا سبب اور نہ بنا اس کو عذاب کا سبب۔

<p>To Control One's Anger</p>	<p>غصہ پر قابو پانے کی دُعا</p>
<p>Oh Allah! Forgive my sins and relieve my heart of my anger and take me in Your protection against the accursed Satan</p>	<p>اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَ اَذْهَبْ غَيْظًا قَلْبِيْ وَ اَجِرْنِيْ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور دُور کر دے غصہ میرے دل کا اور پناہ میں لے لے، مجھے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔</p>

<p>For Reformation of Muslims</p>	<p>مسلمانوں کی اصلاح کی دُعا</p>
<p>O my Lord! Reform the people of Muhammad (P.B.U.H) (Tadhkirah)</p>	<p>رَبِّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ۔ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح فرما۔ (تذکرہ صفحہ ۴۷)</p>

SALAT:

Niyya - Intention (for Prayer)

نِيَّة

Wajjahtu waj-hiya lilla-dhee		وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي			
I have turned my full attention towards Him Who		میں نے اپنی پوری توجہ کر دی اس ہستی کی طرف جس نے			
lilla-dhee	لِلَّذِي	waj-hiya	وَجْهِي	Wajjahtu	وَجَّهْتُ
towards Him Who	اس ہستی کی طرف	my full attention	پوری توجہ اپنی	I have turned	میں نے توجہ کر دی

fataras-samaawaati wal arda haneefan		فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا					
has created the heavens and the earth, being ever-inclined to Him		پیدا کیا آسمان اور زمین کو خالص ہو کر					
haneefan	حَنِيفًا	wal arda	وَالْأَرْضَ	as-samaawaati	السَّمَوَاتِ	fatara	فَطَرَ
being ever-inclined	خالص ہو کر	and the earth	اور زمین	The heavens	آسمانوں	has created	پیدا کیا

wa maa ana minal mushrikeen		وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ					
and I am not one of those who associate partners with Allah		اور نہیں ہوں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے۔					
al mushrikeen	الْمُشْرِكِينَ	min	مِنَ	ana	أَنَا	wa maa	وَمَا
who associate partners (with Allah)	(اللہ کا) شریک ٹھہرانے والوں	(one) of those	سے	I am	میں	and not	اور نہیں

Thanaa'

تَنَاء

Subhaanak-Allahum-ma wa bihamdi-ka		سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ			
Holy are You, O Allah, the Praiseworthy		پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ			
wa bihamdi-ka	وَبِحَمْدِكَ	Allahum-ma	اللَّهُمَّ	Subhaanak	سُبْحَانَكَ
the Praiseworthy	اور تعریف کے ساتھ تیری	O Allah	اے اللہ	Holy are You	پاک ہے تو

wa tabaara-kasmu-ka wa ta-`aalaa jadduka				وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ			
and blessed is Your name and exalted is Your Majesty				اور برکت والا ہے تیرا نام۔ اور بلند ہے تیری شان۔			
jadduka	جَدُّكَ	wa ta-`aalaa	وَتَعَالَى	Ismu-ka	اسْمُكَ	wa tabaaraka	وَتَبَارَكَ
Your Majesty	شان تیری	and exalted	اور بلند	Your name	نام تیرا	and blessed is	اور برکت

wa laa ilaaha ghairuk				وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ			
and there is none worthy of worship besides You				اور کوئی عبادت کے لائق ہستی نہیں تیرے سوا۔			
ghairuk	غَيْرُكَ	ilaaha	إِلَهَ	wa laa	وَلَا		
besides You	سوائے تیرے	worthy of worship	عبادت کے لائق	and (there is) none	اور نہیں		

At-ta'awwuz

A'oodhu biLlahi minash-shaitaanir-rajeem				أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ			
I seek refuge with Allah from Satan the rejected				میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ رائدے ہوئے شیطان سے۔			
ar-rajeem	الرَّجِيمِ	minash-shaitaani	مِنَ الشَّيْطَانِ	biLlahi	بِاللَّهِ	A'oodhu	أَعُوذُ
the rejected	رائدہ (دھنکارا) ہوا	from Satan	شیطان سے	with Allah	ساتھ اللہ کے	I seek refuge	میں پناہ مانگتا ہوں

Surah Al-Fatihah

BismiLlahi-Rahmaan-ir-Raheem				بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ			
In the name of Allah the Gracious, the Merciful				اللہ کے نام کے ساتھ (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے			
Ar-raheemi	الرَّحِيمِ	Ar-rahmaani	الرَّحْمَنِ	Allahi	اللَّهُ	Bismi	بِسْمِ
the Merciful	اور بار بار رحم کرنے والا	the Gracious	جو نہایت مہربان	of Allah	اللہ	In the name	ساتھ نام

Al-hamdu liLlahi rabbi-'aalameen				الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ			
All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds				تمام حمد اللہ ہی کیلئے ہے رب ہے تمام جاتوں کا			
al-'aalameena	الْعَالَمِينَ	rabbi	رَبِّ	liLlahi	لِلَّهِ	Al-hamdu	الْحَمْدُ
of All the Worlds	تمام جاتوں کا	Lord	جو رب (ہے)	belongs to Allah	اللہ کے لئے	all praise	تمام حمد (تعریف)

Ar-Rahmaanir-Raheem				الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ			
The Gracious, the Merciful				جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے			
Ar-raheemi	الرَّحِيمِ	Ar-Rahmani	الرَّحْمَنِ				
the Merciful		بار بار رحم کرنے والا	the Gracious				نہایت مہربان

Maaliki yaumid-deen				مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ			
Master of the Day of Judgement				مالک ہے جزا سزا کے دن کا			
addeeni	الدِّينِ	yaumi	يَوْمِ	Maliki	مَالِكِ		
of Judgment		جزا سزا (کا)	of the Day	دن	Master		مالک

Iyyaaka na`budu wa iyyaaka nasta`een				إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝			
You alone do we worship and You alone do we beseech for help				تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں			
nasta`een	نَسْتَعِينُ	wa iyyaaka	وَإِيَّاكَ	na`budu	نَعْبُدُ	Iyyaaka	إِيَّاكَ
do we beseech for help	ہم مدد چاہتے ہیں	and You alone	اور تجھی سے	do we worship	ہم عبادت کرتے ہیں	You (alone)	تیری ہی

Ihdinas-siraatal-mustaqeem				إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝			
Guide us to the right path.				دکھا ہمیں راستہ سیدھا			
al-mustaqeem	الْمُسْتَقِيمَ	as-siraata	الصِّرَاطَ	Ihdinaa	إِهْدِنَا		
right	سیدھا	the path	راستہ	Guide us to	دکھا ہمیں		

Siraatalla-dheena an`amta `alai-him				صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝			
The path of those upon whom You have bestowed Your blessings				راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔			
`alai-him	عَلَيْهِمْ	an`amta	أَنْعَمْتَ	alla-dheena	الَّذِينَ	Siraat	صِرَاطَ
upon whom	جن پر	You have bestowed Your blessings	تو نے انعام کیا	of those	ان لوگوں کا	the path	راستہ

ghairil-maghdoobi `alaihimi wa lad-daal-leen				غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝			
not of those who have incurred Your displeasure, nor of those who have gone astray (Aa-meen)				نہ کہ ان لوگوں کا (راستہ) جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور نہ ہی ان لوگوں کا جنہوں نے گمراہی اختیار کی۔ (آمین)			
wa lad-daal-leen	وَالضَّالِّينَ	alaihimi	عَلَيْهِمْ	al-maghdoobi	الْمَغْضُوبِ	ghairi	غَيْرِ
nor of (those) who have gone astray	اور نہ گمراہ لوگ	on them	جن پر	who have incurred (Your) displeasure	غضب ہوا	not (of those)	نہ (کہ)

Surah Al-Ikhlāas

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

BismiLlahi-r-Rahmanir Raheem				بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝			
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful				اللہ کے نام کے ساتھ (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے			
ar-Raheem	الرَّحِیْمِ	ar-Rahmani	الرَّحْمٰنِ	Allahi	اللّٰهُ	Bismi	بِسْمِ
the Merciful	(اور) بار بار رحم کرنے والا (ہے)	the Gracious	(جو) نہایت مہربان	Allah	اللہ (کے)	in the name	ساتھ نام

Qul Huw-Allahu Ahad				قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝			
Say, He is Allah, the One				تو کہہ وہ اللہ ایک ہے			
Ahad	اَحَدٌ	Allahu	اللّٰهُ	Huwa	هُوَ	Qul	قُلْ
the One	ایک (ہے)	(is) Allah	اللہ	He	وہ	Say	تو کہہ

Allah-us-Samad	اللَّهُ الصَّمَدُ		
Allah, the Independent and Besought of all	اللہ تعالیٰ کے سب محتاج ہیں (وہ بے نیاز ہے)۔		
as-Samad	الصَّمَدُ	Allaahu	اللَّهُ
the Independent and Besought of all	بے احتیاج ہے	Allah	اللہ

Lam yalid wa lam yoolad	لَمْ يَلِدْ. وَ لَمْ يُؤَلَدْ		
He begets not, nor is He begotten	نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا		
wa lam yoolad	وَلَمْ يُؤَلَدْ	Lam yalid	لَمْ يَلِدْ
nor is He begotten	اور نہ وہ جنا گیا	He begets not	نہیں اس نے جنا

wa lam ya-kullahoo kufuwan ahad	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ		
and there is none like unto Him	اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی		
kufuwan ahad	كُفُوًا أَحَدٌ	wa lam ya-kullahoo	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
like unto Him	ہمسر کوئی بھی	and there is none	اور نہیں ہے اس کا

Rukoo' رُكُوع

Subhaana Rabbi-yal `Azeem	سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ۞		
Holy is my Lord, the Most Great	پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا ہے		
al `Azeem	العظيم	Rabbi	سُبْحَانَ
the Most Great	بڑی عظمت والا	my Lord	پاک ہے
		میرا رب	Holy is

Tasmee' تَسْمِيع

Sami'-Allaahu liman hamidah	سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ۞		
Allah hears him who praises Him	سن لی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی۔		
hamidah	حَمِدَهُ	liman	سَمِعَ
praises Him	تعریف کی اس کی	who him	سن لی
		آئی جس نے	Allah
			اللہ (نے)
			hears

Tahmeed تَحْمِيد

Rabbanaa wa lakal hamd	رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ		
Our Lord, Yours is the praise	اے ہمارے رب سب تعریف تیرے ہی لئے ہے۔		
al hamd	الْحَمْدُ	wa laka	رَبَّنَا
the praise	(سب) تعریفیں	Yours is	ہمارے رب
			Our Lord
			تیرے لئے

hamdan katheeran tayyiban mubaarakan feeh	حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ ۞		
praise that is abundant, pure and full of blessings	بہت زیادہ تعریف۔ پاکیزہ اور برکت والی۔		
mubaarakan-feeh	مُبَارَكًا فِيهِ	tayyiban	حَمْدًا
(and) full of blessings	برکت والی	pure	تعریف
		پاکیزہ	(that is)
			abundant
			praise
			بہت زیادہ

Sajdah

سُجْدَةٌ

Subhaana Rabbi yal a`laa		سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى			
Holy is my Lord, the Most High		پاک ہے میرا رب جو بڑی شان والا ہے۔			
al a`laa	الْأَعْلَى	Rabbiya	رَبِّي	Subhaana	سُبْحَانَ
the Most High	بلندشان والا (ہے)	my Lord	میرا رب	Holy	پاک

Prayer between two Sajdahs

دو سجدوں کے درمیان کی دعا

Rabigh-fir-lee warham-nee		رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي			
O my Lord, forgive me and have mercy on me		اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما			
warham-nee	وَارْحَمْنِي	igh-fir-lee	اغْفِرْ لِي	Rabi	رَبِّ
have mercy on me	اور رحم کر مجھ پر	forgive me	بخش دے مجھے	my Lord	اے میرے رب

wa-hdi-nee wa'aafi-nee waj-bur-nee		وَاهِدْنِي وَ عَافِنِي وَ اجْبُرْنِي			
and guide me and grant me security make good my shortcomings		اور ہدایت دے مجھے اور خیریت سے رکھ مجھے اور اصلاح کر میری			
waj-bur-nee	وَ اجْبُرْنِي	wa aafi-nee	وَ عَافِنِي	wa-hdi-nee	وَاهِدْنِي
and make good my shortcomings	اور اصلاح کر میری	and grant me security	اور خیریت سے رکھ مجھے	and guide me	اور ہدایت دے مجھے

wa-rzuq-nee wa-rfa`-nee		وَ ارْزُقْنِي وَ ارْفَعْني			
and provide for me and raise me up (in status)		اور مجھے رزق عطا کر اور (رتبہ) بلند کر میرا۔			
wa-rfa`-nee	وَ ارْفَعْني	wa-rzuq-nee			وَ ارْزُقْنِي
and raise me up (in status)	اور (رتبہ) بلند کر میرا	and provide for me			اور رزق عطا کر مجھے

التَّشَهُّد

At-Tashah-hud

at-tahiyyaatu liLlahi		التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ	
All verbal worship is due to Allah		تمام زبانی عبادات اللہ کے لئے ہیں۔	
liLlahi	اللَّهُ	at-tahiyyaatu	التَّحِيَّاتُ
is due to Allah	اللہ کیلئے ہیں	All verbal worship	سب زبانی عبادات

was-salawaatu wat-tayyibaatu		وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ	
and all physical acts of worship and financial sacrifices		اور بدنی اور مالی عبادات (بھی)۔	
wat-tayyibaatu	وَالطَّيِّبَاتُ	was-salawaatu	وَالصَّلَاةُ
and all financial sacrifices	اور سب مالی عبادات	and all physical worship	اور سب بدنی عبادات

as-salaamu `alaika ayyuhan-nabiyyu		السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ	
Peace be on you, O Prophet		اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو	
An-nabiyyu	النَّبِيِّ	ayyuha	أَيُّهَا
Prophet	نبی	O!	اے
		be on you	آپ پر
		Peace	سلامتی

wa rahmat-Ullahi wa barakaatuhoo		وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ	
and the Mercy of Allah and His Blessings		اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکات	
wa barakaatuhoo	وَبَرَكَاتُهُ	Allahi	اللَّهُ
and His Blessings	اور برکات اسکی	of Allah	اللہ (کی)
		and the Mercy	اور رحمتیں

as-slaamu `alainaa		السَّلَامُ عَلَيْنَا	
Peace be on us		(اللہ) کی سلامتی ہو ہم پر (بھی)۔	

wa 'alaa `ibaadi-Llahi-ssaaliheen		وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ؕ	
and on the righteous servants of Allah		اور اللہ کے نیک بندوں پر۔	
hi-ssaaliheen	الصَّالِحِينَ	i-Llahi	اللَّهُ
the righteous	نیک	of Allah	اللہ (کے)
		and on the servants	اور بندوں پر

Ash-hadu allaa ilaaha illAllahu				أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ			
I bear witness that there is no God but Allah				میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں			
illAllahu	إِلَّا اللَّهُ	ilaaha	إِلَهَ	allaa	أَنْ لَا	Ash-hadu	أَشْهَدُ
except Allah	(سوائے اللہ کے)	God (worthy of worship)	معبود	(there is) no - that	کہ نہیں (کوئی)	I bear witness	اور میں گواہی دیتا ہوں

wa ash-hadu anna Muhammadan `abduhoo wa rasooluh				وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ط					
and I bear witness that Muhammad is His Servant and Messenger				اور میں گواہی دیتا ہوں کہ (حضرت) محمدؐ اسکے بندے اور اسکے رسول ہیں					
wa rasooluh	وَ رَسُولُهُ	abduhoo	عَبْدُهُ	Muhammadan	مُحَمَّدًا	anna	أَنَّ	wa ash-hadu	وَ أَشْهَدُ
and His Messenger	اور رسول اس کے	is His Servant	بندے اس کے	Muhammad ^{saw}	محمدؐ	that	کہ	and I bear witness	اور میں گواہی دیتا ہوں

Salat `alan Nabee

دروود شریف

Allah-umma salli `alaa Muhammadin				اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ			
O Allah, bless Muhammad ^{saw}				اے اللہ محمدؐ پر خاص فضل فرما			
Muhammadin	مُحَمَّدٍ	alaa	عَلَى	salli	صَلِّ	Allah-umma	اللَّهُمَّ
Muhammad ^{saw}	محمد (ﷺ)	upon	پر	bless	فضل کر	Oh Allah	اے اللہ

wa `alaa aali Muhammadin				وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ			
and the people of Muhammad ^{saw}				اور محمدؐ کی آل پر بھی۔			
Muhammadin	مُحَمَّدٍ	aali	آلِ	wa `alaa	وَ عَلَى		
(of) Muhammad ^{saw}	محمد (ﷺ)	people	آل	and upon	اور پر		

kamaa sallaita `alaa Ibraheema				كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ			
as You did bless Abraham ^{as}				جیسے تو نے ابراہیمؑ پر فضل فرمایا			
Ibraheema	إِبْرَاهِيمَ	`alaa	عَلَى	sallaita	صَلَّيْتَ	kamaa	كَمَا
Abraham ^{as}	ابراہیمؑ	on	پر	You did bless	تو نے فضل فرمایا	as	جیسے (جو)

wa `alaa aali Ibraheema		وَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ		
and the people of Abraham ^{as}		اور ابراہیم کی آل پر۔		
Ibraheema	إِبْرَاهِيمَ	aali	آلِ	wa `alaa وَ عَلَىٰ
(of) Abraham ^{as}	ابراہیم	people	آلِ	and upon اور پر

innaka Hameed-um-Majeed		إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ط		
You are indeed the Praiseworthy, the Exalted		یقیناً تو بے انتہا خوبیوں والا بڑی شان والا ہے۔		
Majeed	مَّجِيدٌ	Hameed-um	حَمِيدٌ	innaka إِنَّكَ
the Exalted	(بڑی) شان والا	the Praiseworthy	(بڑی) حمد والا	You are indeed یقیناً تو

Allah-umma baarik `alaa Muham-madin		اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ		
O Allah, prosper Muhammad ^{saw}		اے اللہ تو برکات نازل فرما محمد پر		
Muham-madin	مُحَمَّدٍ	`alaa	عَلَىٰ	baarik بَارِكْ
Muhammad ^{saw}	محمد (ﷺ)	upon	پر	prosper برکات نازل فرما O Allah اے اللہ

wa `alaa aali Muhammadin		وَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ		
and the people of Muhammad ^{saw}		اور محمد کی آل پر بھی		
Muhammadin	مُحَمَّدٍ	aali	آلِ	wa `alaa وَ عَلَىٰ
(of) Muhammad ^{saw}	محمد (ﷺ)	people	آلِ	and upon اور پر

kama baarakta `alaa Ibraheema		كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ		
as You did prosper Abraham ^{as}		جیسے تو نے ابراہیم پر برکات نازل فرمائی		
Ibraheema	إِبْرَاهِيمَ	`alaa	عَلَىٰ	baarakta بَارَكْتَ
Abraham ^{as}	ابراہیم	upon	پر	You did prosper تو نے برکات نازل فرمائیں as (جیسے) جو

wa `alaa aali Ibraheema		وَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ		
and the people of Abraham ^{as}		اور ابراہیم کی آل پر		
Ibraheema	إِبْرَاهِيمَ	aali	آلِ	wa `alaa وَ عَلَىٰ
(of) Abraham ^{as}	ابراہیم	people	بیرونی کرنے والے	and upon اور پر

innaka Hameed-um-Majeed		إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ			
You are indeed the Praiseworthy, the Exalted		یقیناً تو بے انتہا خوبیوں والا بڑی شان والا ہے			
Majeed	مَجِيدٌ	Hameed-um	حَمِيدٌ	innaka	إِنَّكَ
the Exalted	(بڑی) شان والا	the Praiseworthy	(بڑی) حمد والا	You are indeed	یقیناً

Concluding Prayers (before Salaam)

Rabbanaa aatinaa fid-dunya hasanatanw		رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً			
Our Lord, grant us good in this world		اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں (ہر قسم کی) بھلائی عطا فرما			
hasanatanw	حَسَنَةً	fid-dunya	فِي الدُّنْيَا	آتِنَا	Rabbanaa
good	بھلائی	in this world	دنیا میں	grant us	عطا فرمائیں
				Our Lord	رب ہمارے

wa fil-`aakhirati hasanatanw		وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً			
as well as good in the world to come		اور اگلے جہان میں بھی بھلائی (عطا فرما)			
hasanatanw	حَسَنَةً	`aakhirati	الْآخِرَةِ	فِي	wa
good	بھلائی	the world to come	in	as well as	اور
			آگاہ جہان (آخرت)	میں	

wa qinaa `azaaban-naar		وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ			
and protect us from the torment of the Fire		اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا			
naar	النَّارِ	`azaaban	عَذَابَ	wa qinaa	وَقِنَا
of the Fire	(کے)	from the torment	عذاب	and protect us	اور بچائیں

Rabbij-al-nee muqeeem-as-salaati		رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ			
My Lord, make me observe Prayer		اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا			
as-salaati	الصَّلَاةِ	muqeeem-	مُقِيمَ	اجْعَلْنِي	Rabbi
Prayer	نماز	observe	قائم کرنے والا	make me	بنائے
				My Lord	(اے) رب میرے

wa min dhurriyatee	وَمِنْ ذُرِّيَّتِي		
and make my children too	اور میری اولاد کو بھی۔		
dhurriyatee	ذُرِّيَّتِي	wa min	وَمِنْ
my children	اولاد میری	and from among	اور سے

Rabbanaa wa taqabbal du`aa	رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ۔			
Our Lord, and accept my prayer	اے ہمارے رب تو میری دعا کو قبول فرما۔			
du`aa	دُعَاءِ۔	wa taqabbal	وَتَقَبَّلْ	Rabbanaa
my prayer	دعا میری	and accept	تو قبول فرما	Our Lord

Rabba-naghfir-lee	رَبَّنَا اغْفِرْ لِي			
Our Lord, grant forgiveness to me	اے ہمارے رب، مجھے بخش دے۔			
aghfir-lee	اغْفِرْ لِي	Rabba	رَبَّنَا	
grant me forgiveness	بخش دے مجھے	Our Lord	رب	

wa li-waali-dayya wa lil-mu'mineena	وَلِوَالِدَيَّْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ		
and to my parents and to the believers	اور میرے والدین کو (بھی) اور (سب) مومنوں کو (بھی)		
wa lil-mu'mineena	وَلِلْمُؤْمِنِينَ	wa li-waali-dayya	وَلِوَالِدَيَّْ
and to the believers	اور مومنوں کو	and to my parents	اور والدین کو میرے

yauma yaqoo-mul-hisaab	يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ			
on the day when the reckoning will take place	جس دن حساب قائم ہوگا			
ul-hisaab	الْحِسَابُ	yaqoo-mu	يَقُومُ	yauma
the reckoning	حساب	will take place	قائم ہوگا	(on) the day

Salaam

سَلام

Assalaamu-alaikum wa Rahmat-Ullah	السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔					
Peace be on you and the blessings of Allah	اللہ کی سلامتی اور اسکی رحمتیں تم پر ہوں۔					
Allah	اللَّهُ	wa Rahmat	وَرَحْمَةُ	alaikum	عَلَيْكُمْ	Assalaamu
(of) Allah	اللہ (کی)	and the blessings	اور رحمتیں	on you	تم پر	Peace (be)

تَسْبِيح

Tasbeeh

Subhaan-Allah		سُبْحَانَ اللَّهِ-	
Holy is Allah		اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے	
Allah	اللَّهُ	Subhaan	سُبْحَانَ
Allah	اللہ تعالیٰ	Holy	تم نقائص سے پاک

Alhamdu-Lillah		الْحَمْدُ لِلَّهِ-	
All praise belongs to Allah		تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں	
Lillah	لِلَّهِ	Alhamdu-	الْحَمْدُ
belongs to Allah	اللہ تعالیٰ کے لئے	All praise	تمام خوبیاں

Allahu Akbar		اللَّهُ أَكْبَرُ	
Allah is the Greatest		اللہ سب سے بڑا ہے	
Akbar	أَكْبَرُ	Allahu	اللَّهُ
(is) the Greatest	سب سے بڑا	Allah	اللہ

Dua e Qunoot

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ وَ
نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ وَ لَكَ
نُصَلِّي وَ نَسْجُدُ وَ إِلَيْكَ نَسْعِي وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوا
رَحْمَتَكَ وَ نَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ۝

O Allah! We beseech Your help and ask Your forgiveness and believe in You and trust in You and praise You in the best manner; and we thank You and we are not ungrateful to You, and we cast off and forsake him who disobeys You. O Allah! You alone do we worship and to You alone do we pray and we prostrate ourselves; and we rush to You and present ourselves; and we rush to You and present ourselves, and we hope for Your mercy and we fear Your chastisement, for surely Your chastisement overtakes the disbelievers.

”اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کرے اُس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے، تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ تیری ہی طرف دوڑتے اور حاضری دیتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو ہی پہنچنے والا ہے۔“

ZIKIR (KALIMA 1- 6):

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔

There is none worthy of worship except ALLAH (and) Muhammad (P.B.U.H) is the Messenger of ALLAH.

First Kalima Tayyab

اول
کلمہ طیب

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ پیشک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اُس کے بندے اور رسول ہیں۔

I bear witness that there is none worthy of worship except ALLAH, the One alone, without partner, and I bear witness that Muhammad (P.B.U.H) is His Servant and Messenger.

Second Kalima Shahadat

دوسرا
کلمہ شہادت

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ط
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

Third Kalima Tamjeed



اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔

Glory be to ALLAH and all praise be to ALLAH and there is none worthy of worship except ALLAH, and ALLAH is the Greatest. And there is no might or power except with ALLAH, the Exalted, the Great One.

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَلَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط بِيَدِهِ الْخَيْرُ ط وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ه

Fourth Kalima Touheed



اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ہے بادشاہی اور اسی کیلئے تعریف وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اور اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی بڑے جلال اور بزرگی والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

There is none worthy of worship except ALLAH. He is alone and has no partner. To Him belongs the Kingdom and for Him is all praise. He gives life and causes death. And He is alive. He will not die, never, ever. Possessor of Majesty and Reverence. In His hand is all good and He has power over everything.

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ عَمَدًا أَوْ خَطَا سِرًّا
أَوْ عَلَانِيَةً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ
الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ
وَعَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ه

Fifth Kalima Istighfar



میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر یا بھول کر چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا (اے اللہ) بیٹھک تو غیبوں کا جاننے والا اور غیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔

"I seek forgiveness from ALLAH, my Lord, from every sin I committed knowingly or unknowingly, secretly or openly, and I turn towards Him from the sin that I know and from the sin that I do not know, Certainly You (O ALLAH!), You (are) the knower of the hidden things and the Concealer (of) the mistakes and the Forgiver (of) the sins. And (there is) no power and no strength except from ALLAH, the Most High, the Most Great".

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تَبَيَّنْتُ عَنْهُ وَتَبَيَّنْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكَ
وَالْكَذِبِ وَالْعَيْنَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ
وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ه
اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس (شرک) کی جس کو میں نہیں جانتا اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور بخوث سے اور نینیت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔

Sixth Kalima Radd-e-Kufr



"O ALLAH! I seek refuge in You from that I should not join any partner with You and I have knowledge of it, I seek Your forgiveness from that which I do not know, I repent from it (ignorance) and I reject disbelief and joining partners with You and of falsehood and slandering and innovation in religion and tall-tales and evil deeds and the blame and the disobedience, all of them. I submit to Your will and I believe and I declare: There is none worthy of worship except ALLAH and Muhammad (P.B.U.H) is His Messenger."

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA

Articles:

INTRODUCTION TO THE SALAT

Salat & Prayers

Types of Prayers

Fard Prayers

The Arabic word, fard, means **obligatory**. Fard prayer is performed in **congregation** behind an Imam preferably in a mosque. Congregational prayers mean prayers that are said together in a group. However, when it is not possible to offer it in the mosque or in congregation, we can offer fard prayers at home or



any other place on our own. There are five daily fard prayers. It is a very serious sin in the sight of Allah to intentionally miss a fard prayer. However, if it is missed unintentionally, we can offer the missed fard prayers as **qadaa** prayer or a missed prayer.

Sunnah Prayers

It was the practice of the Holy Prophet^{sa} of Islam to offer additional prayers before and after fard Prayers. These are called sunnah prayers. It is very rewarding to offer these prayers and to miss them intentionally earns Allah's disapproval.

Waajib Prayers

Waajib prayers are considered **necessary** but they are not obligatory. The **vitr** raka'at at the end of Ishaa prayers, **Eid-ul-Fitr** and **Eid-ul-Adha** prayers are all waajib prayers. It is a sin to intentionally miss a waajib prayer, but if it is missed by mistake, there is no requirement to offer it as a qadaa prayer.

Nafil Prayers

These voluntary, optional prayers are preferably performed in the home. There is no required number of nafil prayers. They are offered two raka`aat at a time, and can be offered in any number that the person chooses. By offering these

voluntary prayers we can achieve additional blessings of Allah. Moreover, the sunnah and **nawaafil** (plural of nafil) prayers make good any shortcomings in the performance of fard prayers. Tahajjud prayer, which is offered in the middle of the night and before Fajr time, is among the nawaafil prayers. It is reported in ahadith that our beloved Holy Prophet^{SA} used to offer nawaafil very frequently.

Table of Raka`at and Timings

A **raka`ah** is one whole series of postures which begins from the standing position and ends with **prostration**. If we stand twice it means we have prayed two raka`aat. If the prayer is composed of four raka`aat, we must sit down after two raka`aat and recite 'at-tashahhad' and then stand up without ending our prayer and complete our four raka`aat by saying two more raka`aat. See the graphic below for one raka`ah.



There are five daily prayers, each of which should be performed at its own appointed time. If, however, a prayer is missed for some reason, the midday (Zuhr) and afternoon (Asr) prayers can be joined together. Similarly, after sunset, Maghrib and Isha prayers can be joined together.

The table of raka`aat and timings for various prayers is as follows:

Salat	Timing	Raka`aat			
		Sunnah	Fard	Sunnah	Vitr
Fajr	In the morning before sunrise.	2	2		
Zuhr	In the early afternoon.	4	4	2	
Asr	In the late afternoon.		4		
Maghrib	Just after sunset.		3	2	
Ishaa	After nightfall, after Maghrib prayer until Fajr prayers.		4	2	3

Combining Salat

The Holy Qur'an (4:104) instructs Muslims to offer prayer at "fixed hours." The Sunnah of the Holy Prophet^{sa} also supports the idea of generally observing daily prayers at five separate times. With that said, there still is a permission to combine the prayers. This combining of prayers can occur both at home and while travelling.

One can only combine these salats together:

- Zuhr and Asr: When combining Zuhr and Asr one would offer 4 fard for Zuhr and 4 fard for Asr.
- Maghrib and Isha: When combining Maghrib and Isha one would offer 3 fard for Maghrib, 4 fard for Isha and 3 Vitr.

Exercise 2.1 Match the prayers to their correct timings.

Fajr	In the late afternoon
Zuhr	After nightfall, when it is dark
Asr	In the morning, just before sunrise
Maghrib	Just after sunset
Ishaa	In the early afternoon

Exercise 2.2 Fill in the blanks below using the key words in the box.

FARD	RAKAAT	WAJIB	TAHAJJUD
	NAFL	SUNNAH	FOUR

- There are _____ types of prayers.
- Usually performed in congregation, _____ prayers are obligatory, which means we MUST offer these prayers no matter what.
- The Vitr and Eid prayers are known as _____ prayers.
- The Holy Prophet^{SA} used to perform _____ prayers before and after the Fard. It is a sin to miss them intentionally.
- Optional prayers which we can offer to ask Allah's special blessings are called _____ prayers.
- Nafil prayers can be offered two _____ at a time.
- Waking up in the middle of the night to offer nafil prayers is called _____.

INTRODUCTION TO THE HOLY QUR'AN

Meaning of the word Qur'an:

The word Qur'an means, "often read or recited." The Holy Prophet^{sa} received messages from Allah through verbal **revelations** for 22 years and 5 months. The Holy Qur'an is the collection of those verbal revelations from Allah.

The First Revelation of the Holy Qur'an:



The Holy Prophet Muhammad^{sa} received the first revelation in a cave at **Mount Hira**, where he often went for meditation and prayers. One night, when the Holy Prophet^{sa} was deep in prayer, the **Angel Jibra'eel^{as}** appeared in front of him and asked him to read. The Holy Prophet^{sa} replied that he could not read. The angel again asked him to read in the name of his Creator. For a second time, the Holy Prophet^{sa} told the angel that he

could not read. When the angel said this a third time, the Holy Prophet^{sa} recited the verses he was just told.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Proclaim thou in the name of thy Lord Who created. (96: 1-2)

This is how Allah started revealing the Holy Qur'an to His Messenger. This was also the start of the **prophethood** of Hadrat Muhammad^{sa}. Allah continued to reveal the Qur'an until the death of Holy Prophet.

The Holy Qur'an is Memorized and Written:

Whenever Angel Jibra'eel^{as} brought a new revelation, the Holy Prophet^{sa} would repeat the verses after Angel Jibra'eel^{as} and memorize them. The Holy Prophet^{sa} would then recite the revealed verses to his companions. Many of his companions also memorized the verses. They would also write the verses down on leather, the bark of trees, or stone. This is because at that time, paper was rare and expensive.

Arrangement of the Holy Qur'an:

The arrangement of chapters and verses in the Qur'an was done through the guidance of Allah. The Holy Prophet^{sa} was given a specific arrangement by Allah for all the verses.

After the death of the Holy Prophet Muhammad^{sa}, his companions put all the verses and chapters together and made the first standard version (standard text) of the Holy Qur'an. Copies of this version were sent to Muslims in different parts of the world.

The Holy Qur'an was revealed in **Arabic**. It has been translated into more than 100 languages of the world. The Holy Qur'an consists of **30 parts** or 'siparahs', which are further divided into **114 chapters** or 'surahs'.

Protection of the Holy Qur'an:

The Holy Qur'an is the only book in the world to claim that every word of it is the actual **Word of God**. It also claims that Allah Himself will protect and preserve the Holy Qur'an.

The Holy Books of other religions are no longer found in their original form. Also, the languages in which the other Holy Books are written are no longer spoken. Unlike the other holy books, Qur'an was revealed in Arabic, which is a living language; spoken, read and written by millions and millions of people.



Another way Allah has protected the Holy Qur'an is by making it easy to memorize. Even those who do not speak Arabic can memorize large portions of the Holy Qur'an. Thousands of people around the world have memorized the entire Qur'an.

These people are called **Hafiz e Qur'an** which means guardian of the Qur'an.

The Holy Qur'an is a book which is often read and recited throughout the world. Muslims normally read the entire Holy Qur'an from start to end, several times during their life. This also makes sure that no part of the Holy Qur'an is ever forgotten.

While the recitation of the Qur'an takes place during salat five times a day, a Muslim should also recite the Holy Qur'an outside of salat.

Recitation of the Holy Qur'an and its Reward:

The Qur'an can be recited at any convenient time, but the best time is after **Fajr** prayer. Allah says in the Holy Qur'an:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
الْأَيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۗ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٩﴾

Observe Prayer from the declining and paling of the sun till the darkness of the night, and recite the Qur'an at dawn. Verily, the recitation of the Qur'an at dawn is especially acceptable to Allah. (17:79)

The Holy Prophet^{sa} has said, “Keep reading the Qur’an for it will stand by for its readers on the Day of Judgment.”

The Promised Messiah^{as} also had great love for the Holy Qur’an, and has advised his followers to love, read, and honour the Qur’an in these words, “Those who honour the Qur’an shall be honoured in the heaven.”

What is in the Holy Qur’an?:



The Holy Qur’an has **instructions** for what we should and should not do. The Holy Qur’an gives a **solution** to every problem. It is a book of guidance for all people and for all ages.

The Holy Qur’an tells us about the prophets of the past and the **history** of their nations. It tells us how people behaved and what happened to them, so we can learn from their stories.

The Holy Qur’an also contains **prophecies**. It tells us about things that will happen in the future.

There are many scientific discoveries, which man did not know of until recent times and they were revealed in the Holy Qur’an 1500 years ago. This is also proof that the Holy Qur’an is the Word of Allah, because only Allah knows what will happen in the future.

Exercise 1.1 Choose the best answer for the following questions.

The word Qur’an means

- Often read and recited.
- That which is read and recited on special occasions.
- Divine book (divine means from God).

The Holy Prophet^{sa} received the first revelation of the Holy Qur’an when

- He^{sa} was doing Tawaaf around the Ka`aba.
- He^{sa} was praying and meditating in a cave at Mount Hira.
- He^{sa} was taking a trade caravan to Syria.

Which of these is true regarding the Holy Qur’an

- Many companions of the Holy Prophet^{sa} also memorized the Holy Qur’an.
- Revelations were written down on leather, bark of trees, stones etc.
- The Holy Prophet^{sa} repeated each revelation after Angel Jibra’eel^{as} as he^{sa} received it.
- All of the above are true.

The Holy Qur’an is the only book that claims that

- It is the actual word of God Himself
- God Himself will protect and preserve it.
- Only a religious scholar can make corrections in it

- d. Both **a** and **b** are correct

The best time to recite the Holy Qur'an is

- a. After Isha prayer
- b. At sunset, just before Maghrib
- c. At dawn, after Fajr prayer
- d. Between Zuhr and Asr prayers

The Holy Qur'an contains the following:

- a. Prophecies about the future.
- b. Instructions for what to do and what not to do.
- c. Life stories about past nations and prophets.
- d. Solutions to all the problems for all the people, for all times to come.
- e. All of the above are true.

Exercise 1.2 True or False?

1. The Holy Qur'an was revealed over a period of 32 years. TRUE/FALSE
2. The revelations of the Holy Qur'an stopped after the Holy Prophet^{sa} migrated to Medina. TRUE/FALSE
3. The Holy Qur'an was revealed in the Arabic language. TRUE/FALSE
4. Only four revealed Books have their original texts preserved. TRUE/FALSE
5. The Holy Qur'an is the book most often read and recited throughout the world. TRUE/FALSE
6. A Muslim should recite the Holy Qur'an three times a week. TRUE/FALSE
7. We memorize small portions of the Holy Qur'an because it is impossible for people to memorize all of it. TRUE/FALSE
8. There are 30 chapters in the Holy Qur'an. TRUE FALSE There are 30 parts in the Holy Qur'an. TRUE/FALSE

Exercise 1.3 Fill in the blanks using the words from the word bank below.

1. The Holy Qur'an is a message from _____.
2. The Holy Qur'an was revealed to _____.
3. The language of the Holy Qur'an is _____.
4. A _____ is a special message from Allah sent through His angels.
5. The Holy Prophet^{sa} was praying in cave _____ when the Angel _____ brought the first revelation from Allah.

ALLAH	HOLY PROPHET ^{sa}	ARABIC
HIRA	JIBRAEEL ^{as}	REVELATION

Exercise 1.4 Connect the dots below and complete the picture.

